



سوال

(568) جس عورت کو ایک یا دو سال کی علیحدگی کے بعد طلاق دی گئی اور استبراء کے بعد بھی گزر گئی۔ کیا اب بھی وہ عدت گزارے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جب عورت کو ایسی دوری کے بعد، جس کی مدت ایک سال یا دو سال یا اس سے کم ہے، طلاق دے دی گئی اور طلاق سے پہلے استبراء کے بعد بھی گزر چکی ہے۔ کیا اس عورت پر عدت گزارنا لازم ہوگا یا نہیں؟ یا اس کے لیے بغیر عدت گزارے شادی کرنا جائز ہوگا جبکہ اس کے خاوند نے عموماً لے کر طلاق دی ہے اور وہ رجوع کے لیے رغبت بھی نہیں رکھتا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب عورت کو طلاق دی جائے تو طلاق کے بعد اس پر عدت واجب ہوتی ہے اگرچہ وہ طلاق سے پہلے لبا عرصہ اپنے خاوند سے جدا رہی ہو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... سورة البقرة ۲۲۸

"اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو تین حیض تک انتظار میں رکھیں۔"

اور اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کی بیوہ کو، جب اس نے ثابت سے خلع لیا، حکم دیا کہ خلع لینے کے بعد ایک حیض عدت گزارے۔

اس حدیث شریف کی روشنی میں درست بات یہ ہے کہ خلع لینے والی عورت طلاق کے بعد ایک حیض عدت گزارے اور یہ حدیث مذکورہ آیت کے مفہوم کو خاص کرنے والی ہے۔ پس اگر خلع لینے والی، جس نے مال دے کر طلاق لی ہے، تین حیض عدت گزارے تو یہ زیادہ مکمل اور احتیاط والی بات ہے۔ پھر تین حیض عدت گزارنا اس لیے بھی اولیٰ ہے کہ اس سے ان اہل علم کے اختلاف سے بھی بچا جاسکے گا جو مذکورہ آیت کے عموم کی وجہ سے اس بات کے قائل ہیں کہ خلع لینے والی عورت تین حیض عدت گزارے۔ (علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 509

محدث فتویٰ